

رمضان دعائیں

رمضان



سحری، افطاری، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ
اور تراویح کی دعا بمعہ اردو ترجمہ

افطار کی دعا (دعاء افطار)

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ
وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ط

اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا
اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور
تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا

دوسرا عشرہ (عشرۃ ثانیہ)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ

كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ط

میرے رب! میں اپنے گناہوں کی مغفرت
چاہتا ہوں اور تیری جانب (توبہ کرتا) ہوں۔

پہلا عشرہ (عشرۃ اول)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ط

اے زندہ اور قائم رب!
میں تیری رحمت کے حصول کی فریاد کرتا ہوں۔

سحری کی دعا (دعاء سحر)

وَبِصَوْمِ غَدٍ نُّؤِيْتُ

مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ط

اور میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں

سحری کا انمول تحفہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْقَائِمُ
عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

فضیلت: جو شخص اس کو سحری کے وقت سات (۷) مرتبہ پڑھے گا
اس کو ہر ستارے کے بدلے میں ہزار نیکیاں ملیں گی ہزار گناہ
معاف کر دیئے جائیں گے اور اتنے درجے بلند کر دیئے جائیں
گے۔

دعائے شب قدر

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ

الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

(ترمذی)

ترجمہ: اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے معاف فرما۔

دعا تراویح (دعاء تراویح)

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي

الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ

وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ

الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ

رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ اللَّهْمَّ

أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ

پاک ہے حکومت و اقتدار والا، پاک ہے، عزت و

عظمت، ہیبت و قدرت اور بڑائی اور دبے والا۔

پاک ہے وہ زندہ جاوید بادشاہ جو نہ سوتا ہے نہ کبھی اس کے

لئے فنا ہے۔ نہایت پاک و برتر 'عیوب سے پاک ہے ہمارا

پروردگار اور فرشتوں کا پروردگار اور حضرت جبریل کا

پروردگار۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ دے۔ اے

پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے

تیسرا عشرہ (عشرۃ ثلاثہ)

اللَّهُمَّ

أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ ط

اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچالیں